

LOYAL CUSTOMER POLICY FOR THE SEASON 2021-22

محترم کسٹمر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

اُمید ہے بخیریت ہونگے۔

الحمد للہ! ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ایسے مواقع پیدا کئے جائیں جس سے کمپنی اٹھدا اور معزز کسٹمرز کو باہمی اشتراک عمل کی بدولت فائدہ ہو۔ ہم یہ بات بھی کبھی نہیں بھولے کہ صارف کو جو مال دینا ہے اس کا نرخ اس کے معیار کے مطابق ہو کیونکہ صارف ہی ہم سب کے لئے اہم ہے۔ ماضی میں آپ نے کئی ایسی پالیسیاں دیکھی ہونگی جس سے مختلف پارٹیوں نے اپنی محنت سے فائدے حاصل کئے۔

کمپنی آنے والے مالی سال کے دوسرے سیشن کے لئے "Loyal Customer" کی پالیسی نافذ کر رہی ہے۔ جس کے ذریعے کسٹمر اپنے حاصل کردہ انعام سے ایک فیصد (1%) اضافی رقم حاصل کریگا۔ سکیم ہذا کا دورانیہ یکم جولائی 2021 تا 5 جنوری 2022 تک مقرر کیا گیا ہے۔ "Loyal Customer" بننے کیلئے شرائط درج ذیل ہیں

(1) یہ کسٹمر اپنے شہر کے Sale Points میں صرف  برانڈز کا کاروبار کریگا۔

(2) ہماری ری بیٹ اسکیم کے مطابق کم از کم سلور (Silver) کسٹمر بنے گا۔

(3) **REBATE POLICY FOR THE SEASON 2021-22** کی مدت اختتام پر بیان حلفی بھیجی جائیگی جس پر دستخط کرنا ہوں گے۔

(4) ری بیٹ اسکیم کی ساری شقیں نافذ العمل ہونگی۔

اس پالیسی میں شمولیت اختیار کرنے یا نہ کرنے کے لئے نیچے دیئے گئے دو آپشنز میں سے کسی ایک پر ✓ کا نشان لگائیں اور مندرجہ ذیل فارم کو پُر کریں اور ہمارے نمائندے یا COURIER کے ذریعے ارسال کریں۔ کمپنی آپکی خواہش کو دیکھتے ہوئے آپ کو "Loyal Customer" کا درجہ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کریگی۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ سے مکمل تعاون کیا جائے۔

کیا آپ "LOYAL CUSTOMER POLICY 2021-22" میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں نہیں

میں _____ فرم / دکان کا نام _____ شہر / علاقہ _____

دستخط _____ تاریخ _____ / /